



سوال

(227) قسم حلال کرنے کے برابر اس کا کیا معنی ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

پہلے ایک سوال میں ذکر کیا گیا کہ "لَنْ نَمْسُكَ النَّارَ إِلَّا تَحْتَهُ الْقِسْمُ" ہرگز نہیں اسے آگ چھونے گی مگر قسم حلال کرنے کے برابر۔ قسم حلال کرنے کے برابر اس کا کیا معنی ہے؟ (فتاویٰ الامارات: 32)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس حدیث میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۗ۱ ... سورة مریم

کہ تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے اور یہ فیصلہ حتمی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم ہے۔ اس وارد ہونے سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کے مابین تین قول ہیں:

پہلا قول: درود کا معنی ہے "آگ کے کونے سے"

دوسرا قول: آگ کے اوپر ہل صراط پر گزرنا۔

تیسرا قول: آگ میں داخل ہونا اور یہ دوسرے قول کے منافی نہیں ہے کیونکہ ہل صراط پر گزرنا آگ میں داخل ہونا ہے اور اس کلام کی مزید تائید جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے۔ لیکن حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اپنی شہرت کے باوجود اس حدیث کو بعض تابعین مجہول لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے ضعف کی علت یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس آیت "وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا" کا ذکر چلا تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھیں اور کہنے لگے کہ یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو۔ فرمانے لگے:

"لَا يَنْبَغِي بَرِّوَلًا فَابْرًا لَدَخَلْنَا فَهَيَّوْنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بَرِّوَلًا وَسَلَّوْنَا كَاثًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ"



نہ کوئی نیک رہے گا۔ نہ کوئی گناہ گار مگر وہ اس آگ میں ضرور داخل ہوگا پھر وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔

"مسلم" میں ایک حدیث ہے۔ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَا يَذُفُّ النَّارَ أَحَدٌ، وَأَنْتُمْ بَيْنَ الشَّجَرَةِ، لَا يَذُفُّ النَّارَ أَحَدٌ"

کہ آگ میں بدر والوں اور بیعت رضوان والوں میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔

کتنی ہے کیسے اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ۷۱ ... سورة مريم

تو آپ نے ان سے فرمایا کہ:

اس کے بعد بھی پڑھو۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا نِجْمًا ۷۲ ... سورة مريم

"پھر ہم ڈرنے والوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو گھسیٹیں گے۔"

ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سن کر بھی اس کا انکار نہ کریں تو یہ خود بخود اس بات کی درستگی دلیل بن جائے گی۔ لیکن ممکن ہے کہ اس میں تخصیص و تنقید داخل ہو۔ یہ ایک عظیم اور باریک بینی والا فائدہ ہے لیکن ابن حزم اس سے مطلع نہیں ہوئے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک کتابچہ لکھا کہ جس میں موسیقی اور گانے کے آلات کو انہوں نے جائز قرار دیا اور ان کی دلیل یہ تھی "کہ جو" بخاری و مسلم "میں ایک حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میرے پاس دو بچیاں بیٹھ کر بعاث جنگ کے اشعار پڑھ رہی تھیں اور دف بجارہتی تھیں۔ توجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے تو فرمانے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی باجے؟ تو آپ نے فرمایا:

"دعما فان لكل قوم عید و ہذا عیدنا"

ان کو چھوڑ دو بے شک ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے دف اور گانے کے جواز پر دلیل لی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچیوں کو برقرار رکھا تھا لیکن ان سے یہ بات فوت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ "مزمار الشیطان" کو بھی برقرار رکھا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بھی "کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"، "وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا" پر بھی اسی طرح برقرار رکھا ہوگا۔ تو اب ہم جمع کریں دونوں کی بات تو "مزمار الشیطان" ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "دعما فان لكل قوم عید" کے درمیان تو نتیجہ خود بخود نکل آئے گا کہ جائز نہیں ہے۔ منع ہونے کے لحاظ سے ان آلات کا شیطان کی طرف سے منسوب ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن عید والے دن بچیوں کا دف بجانا اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح کی استثنیات میں سے ایک استثناء یہ بھی ہے کہ جو صحیح حدیث میں آئی ہے۔ شادی میں دف وغیرہ بجانا جائز ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"وَاضْرِبُوا عَلَيَّ بِالذُّفُوفِ"



کہ ان پر دفن بجائے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شادیوں میں دفن بجایا کرتے تھے "اس مسئلہ کو بھی میں نے تفصیل سے اپنی کتاب آداب الزفاف فی السنہ المطہرہ" میں بیان کیا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ البانیہ

احادیث کے علل اور روایات پر نقد کا بیان صفحہ: 295

محدث فتویٰ